



درج ذیل کے لیے نیو یارک ریاست کا دوبارہ تصدیق کا فارم مکمل کرنے کی ہدایت:

- عوامی معاونت
- تکملائی غذائی اعانت کا پروگرام
- **MEDICAID** اور تکملائی غذائی اعانت کا پروگرام
- **MEDICAID** اور عوامی معاونت

اگر آپ نابینا ہیں یا آپ کی نگاہ بہت زیادہ کمزور ہے اور آپ کو درخواست/ری سرٹیفیکیشن کا فارم یا یہ ہدایات کسی متبادل فارمیٹ میں درکار ہیں، تو آپ اپنے سماجی خدمات کے ڈسٹرکٹ ("ڈسٹرکٹ") سے ان کی درخواست کر سکتے ہیں۔ درج ذیل متبادل فارمیٹس دستیاب ہیں:

- بڑا پرنٹ
- ڈیٹا فارمیٹ (ایک اسکرین ریڈر – قابل رسائی الیکٹرانک فائل)
- آڈیو فارمیٹ (ہدایات یا درخواست/ری سرٹیفیکیشن کے سوالات کا ایک آڈیو ٹرانسکرپشن)
- بریل، اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا کوئی بھی متبادل فارمیٹس آپ کے لیے یکساں طور پر بیکار ہیں

درخواستیں/ری سرٹیفیکیشن فارمز اور ہدایات www.otda.ny.gov یا www.health.ny.gov سے بڑے پرنٹ، ڈیٹا فارمیٹ اور آڈیو فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ درخواستیں / دوبارہ تصدیق کے فارمز آڈیو فارمیٹ اور بریل میں صرف اور صرف معلوماتی مقاصد کے لیے دستیاب ہیں۔ دوبارہ تصدیق فراہم کرنے کے لیے، آپ کو تحریری، غیر متبادل شکل میں ایک دوبارہ تصدیق کا فارم جمع کرانا ہوگا۔

اگر آپ کو کوئی ایسی معذوری ہو جو آپ کے ری سرٹیفیکیشن کا یہ فارم مکمل کرنے اور/یا انٹریو کیے جانے کا انتظار کرنے میں مانع ہو تو براہ مہربانی اپنے ڈسٹرکٹ کو مطلع کریں۔ ڈسٹرکٹ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معقول رہائش فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔

اگر آپ کو ری سرٹیفیکیشن کا یہ فارم مکمل کرنے کے لیے کسی اور سہولت یا کسی دیگر مدد کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی اپنے ڈسٹرکٹ سے رابطہ کریں۔ ہم ایک پیشہ ورانہ اور قابل احترام انداز میں آپ کی اعانت اور مدد کے لیے پابند عہد ہیں۔

دوبارہ تصدیق کا فارم مکمل کرنے کے لیے تجاویز

جب کبھی آپ دوبارہ تصدیق کا فارم پر "عوامی معاونت" یا "PA" دیکھیں تو اس کا مطلب ہے "خاندانی معاونت" اور / یا "سیفتی نیٹ معاونت"۔ ہم دونوں پروگراموں کو "عوامی معاونت" کہتے ہیں۔ PA اور دیگر پروگرامز جن کے لیے آپ اس دوبارہ تصدیق کا فارم استعمال کرتے ہوئے دوبارہ تصدیق فراہم کر سکتے ہیں ضرورت مندوں کو عارضی مدد دینے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ مخصوص پروگرامز میں مدد حاصل کرنے کی آپ کی مدت محدود ہوتی ہے لہذا آپ کے لیے جلد از جلد خود کفیل بن جانا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ خود کفالت حاصل کرنے میں آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ اس امر کی انجام دہی کے لیے ہمیں لازمی طور پر یہ جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ضروریات کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ایک ری دوبارہ تصدیق کا فارم پُر کرنا لازمی ہے۔

ری سرٹیفیکیشن کی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر، ڈسٹرکٹ آپ سے درکار کرے گا کہ اپنے متعلق اور جن دیگر افراد کے لیے آپ ری سرٹیفائی کر رہے ہیں ان کے متعلق معلومات فراہم کریں اور معلومات کی تصدیق کریں۔ ضروری کاغذات کی ایک فہرست جو کہ ان ہدایات کے اخیر میں مذکور ہیں ان معلومات کی نوعیتوں کو ظاہر کرتی ہے جو آپ کو فراہم کرنی پڑ سکتی ہیں اور ان کاغذات کی نوعیتیں جو ان معلومات کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کون ہیں، آپ تصویری شناخت، کوئی ڈرائیونگ لائسنس، امریکہ کا کوئی پاسپورٹ، شہریت کی کوئی سند، ہسپتال یا ڈاکٹر کے ریکارڈز یا گود لیے جانے کے کاغذات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ڈسٹرکٹ درخواست کی کارروائی کے سلسلے میں آپ کا انٹرویو کر سکتا ہے۔ جہاں ممکن ہو وہاں ڈسٹرکٹ متعدد پروگراموں کے لیے انٹرویوز کو یکجا کرے گا۔

آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ تصدیق کا فارم اور ان ہدایات کو سیکشن کے لحاظ سے نمبر تفویض کیا گیا ہے۔ براہ کرم دوبارہ تصدیق کا فارم پُر کرتے وقت درج ذیل باتیں ذہن نشین رکھیں:

- براہ کرم صاف صاف تحریر کریں۔
- شیڈ والے حصوں میں نہ لکھیں۔
- ہر اس فرد (افراد) سے متعلق ہر ایک حصے کو مکمل کرنے کو یقینی بنائیں جن کے لیے آپ ری سرٹیفائی کر رہے ہیں۔
- ہمیشہ قانونی نام استعمال کریں، سوائے اس کے کہ اس کے بر خلاف کی ہدایت ہو۔
- اگر آپ کسی اور فرد کے نمائندہ کی حیثیت سے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں تو براہ مہربانی ان کے متعلق معلومات فراہم کریں، اپنے متعلق نہیں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ اور جس شخص کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں دونوں دوبارہ تصدیق کا فارم کے آخری صفحہ پر دستخط کرتے ہیں۔
- اگر آپ کو اس بارے میں یقین سے معلوم نہ ہو کہ درخواست کے کسی حصے کو کس طرح مکمل کرنا ہے تو اپنے ڈسٹرکٹ سے مدد طلب کریں۔

LDSS-3174، "ریاست نیو یارک کا ری سرٹیفیکیشن فارم برائے مخصوص مراعات اور خدمات" کے علاوہ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس مذکورہ ذیل معلوماتی کتابچوں کی نقول موجود ہوں، یہ ڈسٹرکٹ کے پاس یا www.otda.ny.gov پر دستیاب ہیں:

- LDSS-4148A: "کتاب 1: اپنے حقوق و واجبات کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے"
- LDSS-4148B: "کتاب 2: سماجی خدمات کے پروگراموں کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے"
- کتاب 1، LDSS-4148A اور کتاب 2 LDSS-4148B کا ضمیمہ: "Medicaid" پروگرام میں اہم تبدیلیاں
- LDSS-4148C: "کتاب 3: اگر آپ کو کسی ایمرجنسی کا سامنا ہو تو آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے"

دوبارہ تصدیق کے فارم کے لیے گور پیج

اگر آپ نا بینا ہے یا سنگین ضعف بصارت کے شکار ہے تو آپ ان پروگراموں سے متعلق نوٹسوں موصول کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کی آپ کسی متبادل فارمیٹ میں دوبارہ تصدیق فراہم کرتے ہیں۔ متبادل فارمیٹس بڑے پرنٹ، ڈیٹا CD، آڈیو CD، یا بریل میں دستیاب ہیں اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی دیگر متبادل فارمیٹ یکساں طور پر آپ کے لیے بیکار ہیں۔

اگر آپ نا بینا ہیں یا آپ کی نگاہ بہت زیادہ کمزور ہے، تو کیا آپ تحریری اطلاع نامے کسی متبادل فارمیٹ میں وصول کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ نا بینا ہیں یا سنگین طور پر ضعف بصارت کے شکار ہیں تو اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ اس پروگرام (ان پروگراموں) سے متعلق کسی متبادل فارمیٹ میں تحریری نوٹسوں موصول کرنا چاہتے ہیں جن کی آپ دوبارہ تصدیق فراہم کرتے ہیں۔

اگر ہاں تو اس فارمیٹ کی نوعیت کو نشان زد کریں جو آپ پسند کرتے ہیں: اگر آپ نا بینا ہوں یا سنگین طور پر ضعف بصارت کے شکار ہوں اور کسی متبادل فارمیٹ میں اس پروگرام (ان پروگراموں) سے متعلق نوٹسوں موصول کرنا چاہتے ہوں جن کی آپ دوبارہ تصدیق فراہم کرتے ہیں تو اس فارمیٹ کی نوعیت کو (✓) نشان زد کریں جسے آپ پسند کرتے ہیں: بڑا پرنٹ، ڈیٹا CD، آڈیو CD، یا بریل۔ بریل ایک متبادل فارمیٹ کے طور پر دستیاب ہے اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی دیگر متبادل فارمیٹس آپ کے لیے بریل جتنا مؤثر نہیں ہوں گے۔

اگر آپ کو ری سرٹیفیکیشن کا یہ فارم مکمل کرنے کے لیے کسی اور سہولت یا کسی دیگر مدد کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی اپنے ڈسٹرکٹ سے رابطہ کریں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 1

سیکشن 1: ہر اس پروگرام کو نشان زد کریں جس کے لیے آپ یا گھرانے کے کوئی فرد ری سرٹیفائی کر رہے ہیں

ہر ایک پروگرام کے لیے باکس کو (✓) نشان زد کریں جس کے لیے آپ یا گھرانے کا کوئی فرد دوبارہ تصدیق فراہم کرنا چاہتے ہوں۔

Medicaid میں Medicaid پروگرام، Medicaid کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے خریدو معذوری، اور فیملی پلاننگ بینیفٹ پروگرامز شامل ہیں۔ جہاں کہیں دوبارہ تصدیق کے فارم میں آپ کو "MA" نظر آئے تو اس کا مطلب "Medicaid" ہے جسے پہلے "طبی اعانت" (Medical Assistance) کہا جاتا تھا۔ آپ اس دوبارہ تصدیق کا فارم استعمال کرتے ہوئے MA کے لیے صرف اس صورت میں دوبارہ تصدیق کر سکتے ہیں جبکہ آپ عوامی معاونت (Public Assistance, PA) یا تکملاتی غذائی اعانت کے پروگرام (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) کے لیے بھی بیک وقت دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہوں۔ اگر آپ Medicaid اور SNAP کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنا چاہتے ہوں تو "Medicaid (MA) اور SNAP" باکس کو (✓) نشان زد کریں۔ اگر آپ Medicaid اور PA کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنا چاہتے ہوں تو "Medicaid (MA) اور PA" باکس کو (✓) نشان زد کریں۔

اگر آپ صرف MA کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنا چاہتے ہوں تو آپ <https://nystateofhealth.ny.gov/> پر آن لائن جا سکتے ہیں یا مزید معلومات یا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے کے لیے 1-855-355-5777 پر کال کریں۔ آپ صرف MA والی کاغذی درخواست، فارم DOH-4220 بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے کارکن آپ کو دے سکتے ہیں، یا MA ہیلپ لائن کو 1-800-541-2831 پر کال کریں۔ اگر آپ صرف Medicare بچت پروگرام (Medicare Savings Program, MSP) کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو لازمی طور پر فارم DOH-4328 پر درخواست دینا چاہیے، جو کہ آپ کا کارکن آپ کو فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو شخصی نگہداشت خدمات کی کوئی فوری ضرورت ہو تو آپ کو DOH-4220 MA درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے MA کے لیے الگ سے درخواست دینی چاہیے۔

سیکشن 2

آپ کی اصل زبان کیا ہے؟ "انگریزی"، "ہسپانوی"، یا "دیگر" باکس کو اس زبان کے اظہار کے لیے (✓) نشان زد کریں جس کا استعمال آپ انتہائی کثرت سے کرتے ہوں۔ اگر آپ "دیگر" باکس کو (✓) نشان زد کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ زبان تحریر کریں۔

کیا آپ اس زبان میں اطلاعات موصول کرنا چاہتے ہیں: آپ ان پروگراموں سے متعلق نوٹسوں موصول کریں گے جن کے لیے آپ دوبارہ تصدیق فراہم کرتے ہیں۔ "فقط انگریزی" یا "انگریزی اور ہسپانوی" باکس کو اس زبان (ان زبانوں) کے اظہار کے لیے (✓) نشان زد کریں جس میں آپ یہ نوٹسوں موصول کرنا چاہتے ہیں۔

سیکشن 3: وصول کنندہ کی معلومات

نام: اپنا نام تحریر کریں، بشمول اپنے پہلے نام، درمیانی نام کا ابتدائی حرف (M.I.) اور آخری نام۔

ازواجی حیثیت: تحریر کریں کہ آیا آپ ابھی تنہا، شادی شدہ، بیوہ/رنڈوا، قانونی طور پر علیحدہ یا طلاق شدہ ہیں۔ اگر کبھی آپ کی شادی ہوئی ہے تو درست حیثیت تحریر کریں، "تنہا" نہ لکھیں۔

فون نمبر: اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو اسے پرنٹ کریں۔

موبائل نمبر؟: (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کر کے اس بات کی نشاندہی کریں کہ آیا یہ موبائل فون نمبر ہے۔

رہائشی پتہ: گلی کا پتہ: ہاؤس یا بلڈنگ نمبر، اسٹریٹ، اوینو، روڈ، وغیرہ تحریر کریں جہاں آپ رہتے ہیں۔
اپارٹمنٹ نمبر: اپنے اپارٹمنٹ کا نمبر تحریر کریں، اگر قابل اطلاق ہو۔
شہر: اس شہر کا نام تحریر کریں جس میں آپ رہتے ہیں۔
کاؤنٹی: اس کاؤنٹی کا نام تحریر کریں جس میں آپ رہتے ہیں۔
ریاست: اس ریاست کا نام پرنٹ کریں جس میں آپ رہتے ہیں۔
ژپ کوڈ: اپنے پتہ کے لیے ژپ کوڈ تحریر کریں۔

معرفت کا نام: اگر کوئی اور شخص آپ کی طرف سے آپ کا ڈاک موصول کرتا ہے تو اس شخص کا نام تحریر کریں۔

مراسلات کا پتہ: اگر آپ اپنا ڈاک اپنی رہائش کے علاوہ کہیں اور منگاتے ہیں تو اسٹریٹ پتہ (اور اپارٹمنٹ نمبر، اگر قابل اطلاق ہو) یا پوسٹ آفس باکس، سٹی، کاؤنٹی، ریاست، اور اس مقام کا ژپ کوڈ تحریر کریں۔

آپ اپنے موجودہ پتہ پر کب سے رہ رہے ہیں؟: ان سالوں اور / یا مہینوں کی تعداد تحریر کریں جب سے آپ اپنے موجودہ پتہ پر رہ رہے ہیں۔

کیا یہ کوئی شیئر ہے؟: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہ ایک شیئر ہے۔

دوسرا فون جس پر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہو: اگر آپ کا کوئی دوسرا فون نمبر ہے جس پر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہو تو اسے بھی پرنٹ کریں۔

ای میل پتہ (اختیاری): ضلعے کو ای میل کے ذریعے آپ سے رابطہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے اپنا ای میل پتہ پرنٹ کریں۔ درخواست دینے کے لیے ای میل پتہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

موجودہ پتہ کی رہنمائیاں: اس بابت رہنمائیاں تحریر کریں کہ آپ کے گھر تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر معروف لینڈ مارکس کا استعمال کریں۔

سابقہ پتہ: وہ پتہ تحریر کریں جہاں آپ اپنے موجودہ پتہ پر منتقل ہونے سے پہلے رہا کرتے تھے۔

اگر آپ فی الحال بغیر کسی گھر کے ہیں تو یہاں چیک کریں: اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے / کوئی پتہ نہیں ہے تو اس باکس کو (✓) نشان زد کریں۔

درخواست دہندہ کی معاون ایجنسی/رابطہ کا شخص: اگر کوئی شخص دوبارہ تصدیق فراہم کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو اس شخص کا نام، ان کی ایجنسی، اگر کوئی ہو، اور اس شخص کا فون نمبر تحریر کریں۔

کیا آپ کا مطالبہ ہے کہ اس دوبارہ تصدیق کے فارم کے MEDICAID حصہ اور کسی MEDICAID کوریج کی ممکنہ وصولی کو خفیہ رکھا جائے؟: دوبارہ تصدیق کے فارم پر یہ ظاہر کرنے اور / یا اپنے کارکن کو بتانے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کی دوبارہ تصدیق اور / یا کوئی Medicaid کوریج حاصل کرنے سے متعلق مراسلت کو خفیہ رکھا جائے۔

ان چیزوں کی فہرست نکر کریں جو آپ کی درخواست یا آخری دوبارہ تصدیق کے بعد سے تبدیل ہو گئی ہیں: آپ کی آخری درخواست یا دوبارہ تصدیق کے بعد سے جو تبدیلیاں پیش آئی ہیں ان کی فہرست ذکر کریں، جیسے پتہ میں کوئی تبدیلی، نیا بچہ، آمدنی میں تبدیلی، کسی ملازمت سے محرومی، وغیرہ۔

سیکشن 4: اگر آپ SNAP کے لیے دوبارہ درخواست دے رہے ہیں

دوبارہ تصدیق کے سیکشن 4 میں درج بیان کو پڑھیں اور اس بیان کے ذیل میں دستخط کر کے تاریخ ڈال دیں اگر آپ پر یا کسی اور شخص پر جس کے لیے آپ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہیں اس کا اطلاق ہوتا ہو۔ اگر آپ کے پاس اس سیکشن سے متعلق سوالات ہوں تو براہ کرم ڈسٹرکٹ سے رابطہ کریں۔

سیکشن 5: کیا ان میں سے کسی ایک کا آپ پر اطلاق ہوتا ہے؟

ہر اس حالت کو (✓) نشان زد کریں جس کا آپ پر یا اس شخص پر جس کے لیے آپ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہیں اطلاق ہوتا ہو۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 2

سیکشن 6: گھرانے کی معلومات

نام: اپنے ساتھ رہنے والے ہر فرد کا پہلا نام، درمیانی نام کا پہلا حرف (M.I.)، اور آخری نام تحریر کریں، خواہ وہ ری سرٹیفائی نہ کر رہے ہوں۔ سب سے پہلے خود کو فہرست میں ذکر کریں۔

یہ شخص درج ذیل کے لیے دوبارہ تصدیق کروا رہا ہے: اس معاونت کی نوعیت (نو عینوں) کو (✓) نشان زد کریں جس کے لیے ہر ایک شخص دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے: PA برائے عوامی معاونت، SNAP برائے تکملاتی غذائی اعانت کا پروگرام، MA برائے Medicaid۔

تاریخ پیدائش: ری سرٹیفائی کرنے والے ہر فرد کی تاریخ پیدائش تحریر کریں۔

صنف اور جنس کی شناخت: نیو یارک ریاست صنف، جنسی شناخت یا نظر آنے کی حالت سے قطع نظر ریاستی فوائد اور / یا خدمات تک رسائی کے آپ کے حق کو یقینی بناتی ہے۔ آپ کو اپنی اور اپنے گھرانے کے تمام ارکان کی جنس مرد، عورت، یا "X" کے بطور کرنی چاہیے۔ براہ کرم مرد کے لیے "M"، عورت کے لیے "F"، یا نان بانٹری یا کسی اور شناخت کے لیے "X" سے نشاندہی کریں۔ آپ جو صنف ذکر کریں گے وہ آپ کی درخواست پر کارروائی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آپ کو حاصل ہونے والے کسی بینیفٹ کارڈ یا کسی دیگر عوامی رسائی والی دستاویز میں ظاہر نہیں ہوگی۔

صنفی شناخت یہ ہے کہ آپ خود کو کس طرح سمجھتے ہیں اور آپ خود کو کیا نام دیتے ہیں۔ آپ کی جنسی شناخت وہی جنس یا صنف یا اس سے مختلف ہو سکتی ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت تفویض کی گئی تھی۔ اس درخواست کے لیے صنفی شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی جنسی شناخت یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی جنسی شناخت اس جنس سے مختلف ہے جو آپ اس فرد کے لیے رپورٹ کرتے ہیں اور آپ اس شخص کی جنسی شناخت فراہم کرنا چاہتے ہیں تو فراہم کردہ خالی جگہ میں "مرد"، "عورت"، "نان بانٹری"، "X"، "ٹرانس جینڈر" یا "مختلف شناخت" پر نٹ کریں۔ اگر آپ "مختلف شناخت" تحریر کرتے ہیں تو آپ فراہم شدہ خالی جگہ میں اس شخص کی صنفی شناخت کی مزید وضاحت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات فراہم کرنا رضاکارانہ ہے۔ یہ درخواست دہندہ (دہندگان) کی اہلیت یا موصول کیے جانے والے بینیفٹس کی سطح کو متاثر نہیں کرے گا۔

آپ سے رشتہ: ہر ایک شخص کے لیے، اپنے ساتھ ان کا رشتہ تحریر کریں (مثال کے طور پر: میاں بیوی، بیٹا، فوسٹر چائلڈ، دوست، کمرے کا ساتھی، بورڈر، وغیرہ)۔

گھرانے کے ری سرٹیفائی کرنے والے ارکان کا سوشل سیکورٹی نمبر: ہر اس فرد کا سوشل سیکورٹی نمبر تحریر کریں جو کہ ری سرٹیفائی کر رہے ہیں ماسوائے کہ وہ فرد ایک حاملہ خاتون ہوں جو صرف Medicaid کے لیے ری سرٹیفائی کر رہی ہوں۔

مکمل کردہ اعلیٰ ترین اسکول گریڈ: ری سرٹیفائی کرنے والے ہر فرد کا مکمل کردہ اعلیٰ ترین اسکول کا گریڈ (1 تا 12) درج کریں۔ اگر 12 سالوں سے زیادہ ہو تو 13 درج کریں۔

کیا یہ شخص (بشمول نا بالغ بچوں کے) آپ کے ساتھ غذائیں خریدتا یا کھانے تیار کرتا ہے؟: آپ کے ساتھ رہنے والے ہر فرد کے متعلق اس سوال پر (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کرنا ضروری ہے، خواہ وہ ری سرٹیفائی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ بعض اوقات، وہ لوگ جو علیحدہ غذائیں خریدتے اور تیار کرتے ہیں انہیں SNAP کے زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں۔

براہ کرم شادی سے پہلے کا یا دیگر نام نکر کریں جس سے آپ یا آپ کے گھرانے میں کوئی اور شخص معروف رہا ہے: شادی سے پہلے کے کوئی نام، کسی سابقہ شادی سے ماخوذ نام، یا دیگر نام تحریر کریں جو اس سیکشن میں درج کسی بھی شخص کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا نام، درمیانی نام کا پہلا حرف (M.I.)، اور آخری نام شامل کریں۔

سیکشن 7: گھرانے کے افراد میں تبدیلی

اس سیکشن کو مکمل کریں اگر گزشتہ سال کے دوران آپ کے گھرانے میں کوئی شخص داخل ہوا ہے یا اس سے باہر گیا ہے۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 3

سیکشن 8: نسل / نسلیت

یہ معلومات فراہم کرنا رضاکارانہ ہے۔ اس سے درخواست کرنے والے اشخاص کی اہلیت یا موصولہ فوائد کی سطح متاثر نہیں ہوگی۔ اس معلومات کی درخواست کرنے کی وجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پروگرام کے فوائد نسل، رنگ، یا قومی بنیاد سے قطع نظر تقسیم کیے جائیں۔ اگر آپ اس سیکشن کو مکمل کرتے ہیں تو براہ مہربانی "H" کے لیبل والے کالم میں ری سرٹیفائی کرنے والے ہر فرد کے متعلق "ہاں" کے لیے "Y" درج کر کے یہ ظاہر کریں کہ آیا وہ فرد ہسپانوی اور/یا لاطینی ہیں۔ ہر فرد کی نسل کے پس منظر کی نشاندہی کرنے کے لیے قابل اطلاق نسل کے کالم (کالمز) میں "ہاں" کے لیے "Y" درج کریں:

- H = ہسپانوی یا لاطینی
- I = مقامی امریکی یا الاسکا کا مقامی باشندہ
- A = ایشیائی
- B = سیاہ فام یا افریقی امریکی
- P = مقامی ہوائین یا پیسیفک آئی لینڈ کا باشندہ
- W = سفید فام
- U = نا معلوم

یہ معلومات فراہم کرنا رضاکارانہ ہے۔ یہ دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے شخص (اشخاص) کی اہلیت یا موصول کیے جانے والے بینیفٹس کی سطح کو متاثر نہیں کرے گا۔ ان معلومات کی درخواست کرنے کی وجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پروگرام کے بینیفٹس نسل، رنگ، یا قومی بنیاد سے صرف نظر کر کے تقسیم کیے جائیں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 4

سیکشن 9: شہریت/ غیر ملکی شہری مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت

اگر آپ یا آپ کے گھرانے کے کوئی فرد تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام (SNAP) کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ کو فہرست میں گھرانے کے ہر فرد کا نام درج کرنا ہو گا، خواہ وہ SNAP کے لیے ری سرٹیفائی نہ کر رہے ہوں۔ آپ کو لازمی طور پر فہرست میں کسی بھی بھائی بہن اور والدین کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو عوامی معاونت (PA) کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بچوں کے ساتھ رہتے ہوں۔ اگر آپ اس سیکشن کو کسی ایسے شخص کے لیے مکمل نہیں کرتے ہیں جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے تو اس شخص کو معاونت حاصل نہیں ہو سکے گی۔

نام: ہر ایک شخص کا پہلا نام، درمیان نام کا ابتدائی حرف (MI)، اور آخری نام تحریر کریں جو دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے یا جسے لازماً فہرست میں مذکور ہونا چاہیے۔

ہر ایک شخص کے لیے "شہری/ملک کا باشندہ" یا "غیر شہری" کو نشان زد کریں: ہر فرد کے نام کے آگے یا تو "شہری/قومی" کے خانے کو نشان زد (✓) کریں تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جاسکے کہ وہ فرد امریکی شہری، مقامی امریکی، یا قومی ہے یا پھر اس بات کی نشان دہی کرنے کے لیے کہ وہ فرد امریکی شہری، مقامی امریکی، یا قومی نہیں ہے "غیر شہری" کے خانے کو نشان زد کریں۔

USCIS نمبر (غیر ملکی کا رجسٹریشن نمبر) یا غیر ملکی شہری کا نمبر: شخص کا امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) یا غیر ملکی شہری کا نمبر درج کریں، اگر قابل اطلاق ہو۔

سیکشن 10: تصدیق نامہ

اس سیکشن کے زیریں حصے میں درج بیانات کو بغور پڑھیں، پھر تصدیق نامے پر دستخط کر کے تاریخ ڈال کر ہر اس فرد کی شہریت یافتہ یا امیگریشن کی اطمینان بخش حیثیت والے غیر ملکی شہری ہونے کی تصدیق کریں جو درج ذیل میں سے کسی بھی پروگرام کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا امریکی شہری، مقامی امریکی، یا ملک کا باشندہ نہیں ہے تو ان پروگراموں کو (✓) نشان زد کریں جن کے لیے وہ شخص دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اور جو غیر ملکی باشندہ مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت کا حامل ہے:

- عوامی معاونت (PA)؛
- تکملائی غذائی اعانت کا پروگرام (SNAP)؛ اور/یا
- Medicaid (MA)

"اطمینان بخش غیر ملکی باشندہ کی حیثیت" سے مراد غیر ملکی باشندہ کی ایک ایسی حیثیت ہے جو اس شخص کو کسی مخصوص پروگرام کے فوائد کے لیے نا اہل قرار نہ دیتی ہو۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ مختلف پروگراموں میں مختلف غیر ملکی باشندہ کی شرائط ہوتی ہیں۔ LDSS-4148B، "کتاب 2: سماجی خدمات کے پروگرامز کے بارے میں آپ کے لیے ضروری معلومات"، اور LDSS-4148B کے منسلک "سماجی خدمات کے بارے میں آپ کے لیے ضروری معلومات (LDSS-4148B.1)"، میں اطمینان بخش غیر شہری حیثیتوں کے متعلق مزید معلومات ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے اپنے ضلع سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

گھرانے کا کوئی بھی بالغ فرد یا مجاز نمائندہ گھرانے کے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے جملہ افراد کے لیے تصدیق نامہ پر دستخط کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایسے والد/والدہ جن کے پاس شہریت یا غیر شہری کا اطمینان بخش اسٹیٹس موجود نہ ہو ایسے بچے کے لیے سرٹیفیکیشن پر دستخط کر سکتے ہیں جس کے پاس شہریت یا غیر شہریت کا اطمینان بخش اسٹیٹس موجود ہو۔ اگر گھرانے کے ری سرٹیفائی کرنے والے کوئی فرد 18 برس سے کم عمر ہیں (یا عمر 18 برس یا زیادہ ہے مگر کسی طبی کمزوری یا معذوری کی وجہ سے اپنے نام کے دستخط نہیں کر سکتے) تو لازم ہے کہ گھرانے کے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے کوئی فرد ان کی جگہ دستخط کریں۔

گھرانے کے دوسرے فرد کی طرف سے دستخط کرتے وقت، اپنے خود کے نام کے دستخط کریں۔ مثال کے طور پر، شیر خوار Johnny Doe کی طرف سے دستخط کرتے وقت Mary Doe کو "Mary Doe" کے دستخط کرنے چاہئیں۔

کسی خانے کو نشان زد کرنے اور سرٹیفیکیشن پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹی گواہی کی سزا کا علم رکھتے ہوئے ہر اس پروگرام کے لیے جس کے لیے آپ/وہ فرد (افراد) جن کے لیے آپ دستخط کر رہے ہیں، ری سرٹیفائی کر رہے ہیں، اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ آپ اور/یا وہ امیگریشن کی اطمینان بخش حیثیت کے حامل امریکی شہری، مقامی امریکی، آبائی شہری یا غیر شہریت یافتہ فرد ہیں۔ اگر آپ کسی باکس کو نشان زد نہیں کرتے ہیں یا امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات (USCIS) کا نمبر دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی غیر ملکی شہری کے لیے نشان زد نہیں کرتے ہیں تو وہ شخص معاونت وصول نہیں کر سکتے گا۔

آپ کو خود کے لیے یا دیگر کسی بھی ایسے شخص کے لیے تصدیق نامہ پر دستخط نہیں کرنے چاہئیں جو کہ امریکی شہری، مقامی امریکی یا ملک کا باشندہ نہیں ہے، یا جس کے پاس غیر ملکی شہری مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت نہیں ہے۔ امیگریشن کے اطمینان بخش اسٹٹس کے بغیر غیر شہری PA، SNAP کے فوائد یا Medicaid (بنگامی طبی علاج کے لیے Medicaid کے علاوہ) کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ مخصوص خدمات کے لیے نا اہل بھی ہو سکتے ہیں (جیسے بچہ یا بالغ فرد کی حفاظتی / محافظ خدمات)۔

ہم آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کو USCIS میں جمع کر کے PA، SNAP، بینیفٹس، Medicaid یا خدمات کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے گھرانے کے سبھی یا کسی کی غیر ملکی شہری کی حیثیت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ USCIS سے موصولہ معلومات آپ کے گھرانے کی اہلیت اور فوائد کی سطح کو متاثر کر سکتی ہیں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 5

سیکشن 11: جانٹل سپورٹ انفورسمنٹ یونٹ کے ریفرل سے متعلق معلومات

اگر آپ صرف Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہی ہیں اور آپ حمل سے ہیں، گزشتہ 60 دنوں میں کسی بچے کو جنم دیا ہے، یا صرف 21 برس سے کم عمر بچوں کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہی ہیں تو آپ کو یہ سیکشن مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

1. یہ نشاندہی کرنے کے لیے (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کریں کہ آیا آپ خود سمیت کسی ایسے فرد کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں جن کی عمر 21 سال سے کم ہے، جو غیر شادی شدہ والدین کے یہاں پیدا ہوئے اور/یا جن کی قانونی ولایت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔

2. یہ نشاندہی کرنے کے لیے (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کریں کہ آیا آپ خود سمیت کسی ایسے فرد کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں جن کی عمر 21 سال سے کم ہے اور ان فرد کے والدین میں سے کم از کم کوئی ایک اس گھر سے باہر کہیں رہتے ہیں۔

اگر آپ نے ان دونوں سوالوں کے لیے "نہیں" کو (✓) نشان زد کیا ہے تو چھوڑ کر سیکشن 12 میں جائیں۔ آپ کو سیکشن 11 کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک یا دونوں کے لیے "ہاں" کو (✓) نشان زد کیا ہے تو آپ کو سیکشن 11 کا بقیہ حصہ لازمی طور پر مکمل کرنا چاہیے۔

3. اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ کی عمر 21 برس سے کم ہے۔

21 سال سے کم عمر فرد کا نام: ہر اس فرد کا پہلا، درمیانی اور آخری نام پرنٹ کریں جن کے لیے آپ نے سوال 1، 2 اور/یا 3 کے لیے "ہاں" کو نشان زد کیا ہے۔

غیر تحویلی، مبینہ یا مقصود والد/والدہ کا نام اور پتہ، تاریخ پیدائش اور سوشل سیکیورٹی نمبر: اگر معلوم ہو تو ہر اس فرد کے غیر تحویلی، مبینہ یا مقصود والد/والدہ کا پہلا، درمیانی اور آخری نام، پتہ، تاریخ پیدائش، اور سوشل سیکیورٹی نمبر درج کریں جن کے لیے آپ نے سوالات 1، 2، اور/یا 3 پر "ہاں" کو نشان زد (✓) کیا ہے۔ "غیر تحویلی والد/والدہ" میں کسی بچے کے وہ جینیاتی/حیاتیاتی والد/والدہ، قانونی والد/والدہ، سوتیلے/سوتیلی والد/والدہ، یا گود لینے والے/والی والد/والدہ شامل ہیں جن کے متعلق رپورٹ کی گئی ہو کہ وہ بچے کے گھر میں موجود نہیں۔ فوسٹر کیئر میں موجود بچے کے حوالے سے، بچے کے "غیر تحویلی" یا "غیر موجود والد/والدہ" میں وہ جینیاتی/حیاتیاتی والد/والدہ، قانونی والد/والدہ، سوتیلے/سوتیلی والد/والدہ یا گود لینے والے/والی والد/والدہ بھی شامل ہیں جو بچے کے فوسٹر کیئر میں داخل ہونے کے وقت بچے کے گھر میں موجود تھے/تھیں۔ "مبینہ والد/والدہ" وہ فرد ہیں جو بچے کے/کی جینیاتی/طبعی والد/والدہ ہو سکتے/سکتی ہیں لیکن اب تک ان کو قانونی طور پر والد/والدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ "مقصود والد/والدہ" وہ فرد ہے جو معاونتی توالد نو کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کسی بچے کے والد/والدہ کے طور پر قانونی طور پر پابند ہونے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہے۔ مقصود والد/والدہ جنم دینے والے والد/والدہ کے ساتھ شادی شدہ ہو سکتے ہیں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 6

سیکشن 12: ٹیکس فائل کرنا / منصر کی حیثیت

ہر ایک فرد کے لیے مندرجہ ذیل معلومات تحریر کریں جو کہ گھرانے میں رہ رہا ہے:

پہلا نام، درمیانی نام کا پہلا حرف، اور آخری نام: ہر ایک فرد کا پہلا نام، درمیانی نام کا ابتدائی حرف، اور آخری نام تحریر کریں جو کہ گھرانے میں رہتا ہے۔

ٹیکس کی حالت: ہر ایک فرد کے لیے ٹیکس فائل کرنے کی موزوں حالت کو (✓) نشان زد کریں جو گھرانے میں رہتا ہے۔

براہ کرم ایسے ٹیکس پر منحصر اشخاص کی فہرست بنائیں جو آپ کے ساتھ رہائش پذیر نہیں ہیں اور آپ کے گھرانے میں آپ کے یا کسی دوسرے شخص کے ذریعے دعویٰ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکس فائل نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سوالوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔

ٹیکس منصر کا نام: کسی بھی ایسے شخص کا پہلا نام، درمیانی نام، اور آخری نام تحریر کریں جو آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے لیکن جس کے ساتھ آپ یا کوئی بھی شخص جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں ایک ٹیکس منصر کی حیثیت سے دعویٰ پیش کرتا ہے۔

ٹیکس فائل کرنے والا کا نام: فہرست میں مذکور ہر ایک ٹیکس منصر کے لیے، گھرانے میں رہ رہے اس شخص کا پہلا نام، درمیانی نام کا ابتدائی حرف اور آخری نام تحریر کریں جو ٹیکس منصر کا دعویٰ کرتا ہے۔

سیکشن 13: غیر حاضر / فوت شدہ میاں بیوی کی معلومات

دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے شخص کا نام: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بھی شخص کا نام تحریر کریں جو شادی شدہ ہے / تھا لیکن جس کا / کی شریک حیات ان کے ساتھ نہیں رہتا / رہتی ہے یا وفات پا چکا / چکی ہے۔

شریک حیات کا نام: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی شادی شدہ / سابقہ شادی شدہ شخص کے / کی شریک حیات کا نام تحریر کریں جس کا / کی شریک حیات ان کے ساتھ نہیں رہتا / رہتی ہے یا فوت شدہ ہے۔

شریک حیات کی تاریخ پیدائش اور شریک حیات کی تاریخ وفات، اگر قابل اطلاق ہو: کسی بھی ایسے شادہ شدہ / سابقہ شادی شدہ شخص کا / کی شریک حیات کی پیدائش اور (اگر قابل اطلاق ہو تو) وفات کا ماہ، دن اور سال تحریر کریں جو دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے جس کا / کی شریک حیات ان کے ساتھ نہیں رہتا / رہتی ہے یا فوت شدہ ہے۔

شریک حیات کا سوشل سیکورٹی نمبر: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بھی ایسے شادی شدہ / سابقہ شادی شدہ شخص کے / کی شریک حیات کا سوشل سیکورٹی نمبر تحریر کریں جس کا / کی شریک حیات ان کے ساتھ نہیں رہتا / رہتی ہے یا فوت شدہ ہے۔

شریک حیات کا پتہ اگر قابل اطلاق ہو: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بھی شادی شدہ شخص کے / کی شریک حیات کا اسٹریٹ پتہ، شہر، کاؤنٹی، ریاست اور ڈپ کوڈ تحریر کریں جس کا / کی شریک حیات ان کے ساتھ نہیں رہتا / رہتی ہے۔ اگر نا معلوم ہو تو شریک حیات کا آخری معلوم پتہ تحریر کریں۔

سیکشن 14: غیر حاضر بچہ کی معلومات

دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے شخص کا نام: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بھی شخص کا نام تحریر کریں جس کے پاس ایک 21 سال سے کم عمر کوئی بچہ ہو جو ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔

غیر حاضر بچہ کا نام اور تاریخ پیدائش: 21 سال سے کم عمر کسی بھی بچہ کا نام، اور پیدائش کا مہینہ، دن اور سال تحریر کریں جو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہتا ہے جو دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے۔

بچہ کا پتہ: 21 سال سے کم عمر کسی بھی زندہ بچہ کا اسٹریٹ پتہ، شہر، کاؤنٹی، ریاست، اور ڈپ کوڈ تحریر کریں جو دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی شخص کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔

قانونی ولدیت ثابت کی گئی؟: اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا 21 برس سے کم عمر کسی ایسے بچے کے لیے قانونی ولدیت ثابت کی گئی ہے جو دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی شخص کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔

کیا آپ چائلڈ سپورٹ ادا کرتے ہیں؟: اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا 21 برس سے کم عمر کسی ایسے بچے کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا کوئی شخص چائلڈ سپورٹ ادا کرتا ہے جو ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔

سیکشن 15: نو عمر والدین کی معلومات

اس سیکشن کو صرف اسی صورت میں مکمل کریں جبکہ آپ عوامی معاونت کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہوں۔

کیا گھرانے میں 18 سال سے کم عمر ("نو عمر والدین") کوئی ماں یا باپ ہے؟: اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا کوئی شخص 18 سال سے کم عمر کوئی ماں یا باپ ہے۔

نام: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی بھی ایسے شخص کا نام تحریر کریں جو کہ 18 سال سے کم عمر کوئی ماں یا باپ ہے۔

کیا نو عمر والدین کا بچہ گھرانے میں رہتا ہے؟: اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے 18 سال سے کم عمر کسی شخص کا بچہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔

نو عمر والدین کے بچہ کا نام: دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے 18 سال سے کم عمر کسی شخص کے بچہ کا نام تحریر کریں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 7 اور 8

سیکشن 16: آمدنی کی معلومات

بتائیں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ کس سے رقم حاصل کرتا ہے اور وہ کون ہے؟: اس بات کے اظہار کے لیے سطریں 1 تا 27 کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے مذکورہ کسی بھی طرح کی رقم وصول کرتا ہے، اور ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، اس شخص کا نام یا ان اشخاص کے نام تحریر کریں جو رقم وصول کرتا یا کرتے ہیں۔

رقم/قیمت اور تعدد: ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، ڈالر (\$) میں رقم یا قیمت تحریر کریں اور کتنی کثرت سے اس طرح کی آمدنی ہر ایک وصول کرنے والے شخص کے ذریعہ وصول کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ہر ہفتہ بے روزگاری بیمہ کے بینیفٹس میں \$100 موصول کرتے ہیں تو "\$100 per week" (\$100 فی ہفتہ) یا "\$100/wk" (\$100/ہفتہ واری) تحریر کریں۔

سپلیمنٹل سیکورٹی انکم (SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME, SSI) (ریاستی اور وفاقی کل): اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے نیو یارک ریاست کا تکملاتی پروگرام (State Supplement Program, SSP) کے فوائد تکملاتی سیکورٹی انکم (SSI) کے علاوہ حاصل کرتے ہیں تو ان رقم کو ایک ساتھ جوڑ کر انہیں سطر 2 میں SSI کے فوائد کے لیے رقم/قیمت اور تعدد کے کالم میں درج کریں۔ اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے صرف SSP کے فوائد حاصل کرتے ہیں تو انہیں سطر 2 میں SSI کے فوائد کے لیے رقم/قیمت اور تعدد کے کالم میں درج کریں۔

فوسٹر کیئر مینٹیننس کی ادائیگیاں (موصول کردہ): اگر آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کسی فرد کو فوسٹر کیئر کی ادائیگیاں موصول ہوتی ہیں تو اس رقم کو سطر 17 میں فوسٹر کیئر مینٹیننس ادائیگیوں کے رقم/قیمت اور تعدد کے کالم میں درج کریں۔ اگر آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کسی فرد کو فوسٹر کیئر میں موجود بچے کی نگہداشت کے لیے فوسٹر کیئر مینٹیننس کی ادائیگیاں وصول ہوتی ہیں اور آپ تکملاتی غذائی اعانت کے پروگرام (SNAP) کی مراعات کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دو انتخابات ہیں: آپ اپنے SNAP کے فوائد والے گھرانے میں فوسٹر کیئر میں موجود بچے اور فوسٹر کیئر مینٹیننس کی ادائیگیوں کو شامل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں یا آپ اپنے SNAP فوائد والے گھرانے میں فوسٹر کیئر والے بچے اور فوسٹر کیئر مینٹیننس کی ادائیگیوں کو شامل نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈسٹرکٹ سے دریافت کریں کہ کون سا انتخاب آپ کو زیادہ SNAP فوائد دے گا۔

چائلڈ سپورٹ کی ادائیگیاں (وصول کی گئیں): اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے چائلڈ سپورٹ کی ادائیگیاں وصول کرتا ہے تو اس شخص کا نام جو چائلڈ سپورٹ کے لیے ادائیگی کرتا ہے سطر 18 میں "وصول شدہ از" کے بعد تحریر کریں۔

دیگر آمدنی: کسی بھی دیگر رقم کی وضاحت کریں جو آپ کے ذریعہ یا کسی بھی ایسے شخص کے ذریعہ وصول کی گئی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، بشمول اس شخص کے جو رقم وصول کرتا ہے، کتنی زیادہ وہ وصول کرتے ہیں، اور کتنی کثرت سے وہ وصول کرتے ہیں۔

کٹوتیاں، کون، اور رقم/قیمت اور تعدد: اگر آپ Medicaid کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں، تو لائن 1 سے 15 تک (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کر کے اس بات کی نشاندہی کریں کہ کیا آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی فرد موجودہ سال کے انکم ٹیکس ریٹرن میں درج وفاقی ٹیکس کی کسی کٹوتی کا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، اس شخص کا نام (ان اشخاص کے نام) تحریر کریں جو کٹوتی (کٹوتیوں) کے لیے کلیم کریں گے، اور اخراجات کی رقم یا قیمت اور تعدد جسے انکم ٹیکس ریٹرن میں کلیم کیا جائے گا۔

دیگر ایڈجسٹمنٹ: کسی دیگر وفاقی ٹیکس کٹوتیوں کی وضاحت کریں جو آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے سال رواں کے انکم ٹیکس ریٹرن میں کلیم کرے گا، بشمول ان لوگوں کے جو کٹوتیاں کلیم کریں گے، اور رقم یا قیمت اور اخراجات کا تعدد جس کا دعویٰ انکم ٹیکس ریٹرن میں کیا جائے گا۔

سیکشن 17: سوتیلے والدین / غیر ملکی شہری مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت والے اسپانسر کی معلومات

کیا کسی بچوں کے سوتیلے والدین جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے پاس کوئی وسائل ہیں یا وہ کسی طرح کی آمدنی وصول کرتے ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی شخص کا، بشمول آپ کے، سوتیلا والد یا سوتیلی والدہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں رہتا یا نہیں رہتی ہے اور جس کے پاس مالی وسائل ہیں یا جو کسی بھی ذریعہ سے رقم وصول کرتا یا کرتی ہے۔ (اگر سوتیلا والد یا سوتیلی والدہ آپ کے ساتھ رہتا یا رہتی ہے تو سوتیلے ماں باپ کے ذرائع / آمدنی انکم سیکشن 16، آمدنی کی معلومات، میں شامل کیے جانے چاہئیں)۔ اگر "ہاں" تو سوتیلے ماں باپ کا نام تحریر کریں۔

کیا آپ کے گھرانے میں کوئی شخص غیر ملکی باشندہ مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت کا حامل ہے جس کو ریاستہائے متحدہ میں داخلہ کے لیے اسپانسر کیا گیا تھا اور وہ کون ہے؟ اس بات کے اظہار کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا آپ کے گھرانے میں کوئی شخص کوئی غیر ملکی باشندہ مع اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت کا حامل موجود ہے جس کو ریاستہائے متحدہ میں داخلہ کے لیے کسی شخص نے اسپانسر کیا تھا ہے۔ اگر "ہاں" تو اس غیر ملکی باشندہ کا نام تحریر کریں جو کہ اطمینان بخش حیثیت کا حامل ہے۔

اسپانسر کا نام، پتہ، اور فون نمبر: اگر "ہاں" تو اس شخص کا نام تحریر کریں جس نے آپ کو یا آپ کے گھرانے میں کسی بھی شخص کو ریاستہائے متحدہ میں داخلہ کے لیے اسپانسر کیا تھا، اسپانسر کا پتہ، اور اسپانسر کا فون نمبر۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 9 اور 10

سیکشن 18: ملازمت کی معلومات

یہ سیکشن خود کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے مکمل کریں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو آپ اب بھی معاونت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس سیکشن کے مقاصد کے لیے، "کام کرنے کی عمر" سے مراد 18 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، یا کسی بھی ایسے شخص کے لیے 16 سال یا اس سے زیادہ جو اسکول نہیں جاتا ہے۔

میں فی الحال: اس بات کے اظہار کے لیے "ملازم"، "خود بر سر روزگار"، یا "بے روزگار" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہاں تو آیا آپ خود کے لیے یا کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں۔

مجموعی آمدنی: وہ رقم تحریر کریں جو آپ ٹیکسوں کی منہائی سے پہلے ہفتہ واری، ہفتہ میں دو بار، یا ماہانہ (سالانہ نہیں) بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، اگر قابل اطلاق ہو۔ تمام اجرتیں، تنخواہ، اورور ٹائم کی اجرت، کمیشن، اور ٹیس شامل کریں۔

ماہانہ کام کیے گئے گھنٹے: ہر ایک ہفتہ آپ جتنے گھنٹے کام کرتے ہیں ان کی تعداد تحریر کریں، اگر قابل اطلاق ہو۔

ادا کردہ: اس بات کے اظہار کے لیے "ہفتہ واری"، "ہفتہ میں دو بار"، یا "ماہانہ" کو (✓) نشان زد کریں کہ کتنی کثرت سے آپ کو ادائیگی کی جاتی ہے، اگر قابل اطلاق ہو۔

ہفتہ کا وہ دن جس میں ادائیگی کی جاتی ہے: ہفتہ کا وہ دن تحریر کریں جس میں آپ کو ادائیگی کی جاتی ہے، اگر قابل اطلاق ہو۔

آجر کا نام اور پتہ اور فون نمبر: اپنے آجر کا نام، پتہ اور فون نمبر تحریر کریں، اگر قابل اطلاق ہو۔ "خود" اور اپنے کاروبار کا پتہ اور فون نمبر تحریر کریں اگر آپ خود بر سر روزگار ہوں۔

کیا کوئی اور شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے فی الحال ملازم یا خود بر سر روزگار ہے اور کون: اگر کوئی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کام کر رہا ہے تو "ملازم" یا "خود بر سر روزگار" کو (✓) نشان زد کریں، اور ان کا نام تحریر کریں۔

مجموعی آمدنی، ماہانہ کام کیے گئے گھنٹے، ادا کردہ ہفتے کا وہ دن جس میں ادائیگی کی جاتی ہے، آجر کا نام اور پتہ، اور فون نمبر: مذکورہ بالا احکامات کے مطابق کسی بھی ایسے شخص کے لیے مکمل کریں جو آپ کے ساتھ رہتا اور کام کرتا ہے۔

کیا آپ کے آجر کے ذریعہ صحت بیمہ دستیاب ہے؟ اگر آپ ملازم ہیں تو یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ کے پاس آپ کے آجر کے معرفت میڈیکل کوریج دستیاب ہے۔

کیا کسی ایسے شخص کا جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کسی آجر کے پاس صحت بیمہ ہے؟ اور وہ کون ہے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا کسی آجر کے معرفت میڈیکل کوریج ہے، اور اگر "ہاں" تو ان کا نام تحریر کریں۔

بیمہ کمپنی کا نام: اپنی صحت بیمہ کمپنی اور / یا کسی ایسے شخص کی صحت بیمہ کمپنی کا نام تحریر کریں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اگر قابل اطلاق ہو۔

کیا آپ کے پاس یا کسی بھی ایسے شخص کے پاس جو آپ کے ساتھ رہتا ہے ملازمت کی وجہ سے بچہ یا منحصر شخص کی دیکھ بھال کے اخراجات ہیں؟ اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس پر بچہ کی دیکھ بھال یا منحصر شخص کی دیکھ بھال (مثال کے طور پر کوئی ضعیف والدین) کے اخراجات ملازم ہونے کے نتیجہ میں ہیں اور ان اخراجات والے شخص کا نام تحریر کریں۔

کیا آپ پر یا کسی اور شخص پر جو آپ کے ساتھ رہتا ہے ملازمت سے وابستہ دیگر اخراجات ہیں؟ اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس پر ملازمت سے وابستہ کوئی اخراجات (مثال کے طور پر نقل و حمل، یونیفارم) ہیں، اور اگر "ہاں" تو اپنا / ان کا نام تحریر کریں۔

اگر ملازم نہ ہوں تو آخری بار کب آپ نے یا کسی ایسے شخص نے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کام کیا تھا؟، کون، کب، اور کہاں: اگر آپ یا کام کرنے کی عمر کا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے بے روزگار ہے تو اپنا / ان کا نام، وہ تاریخیں جب آپ نے / انہوں نے آخری بار ملازمت کی تھی، اور کہاں آپ / وہ لوگ آخری بار ملازم تھے تحریر کریں۔

کیوں آپ نے (یا انہوں نے) کام کرنا چھوڑ دیا؟: وہ وجہ (وجوہات) تحریر کریں جس کے لیے آپ یا کام کرنے کی عمر کا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے بے روزگار ہے۔

کیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے بے روزگاری کے مد نظر درخواست دیتے ہیں؟، کون، کب، اور درخواست دینے کی حالت: اگر آپ یا کام کرنے کی عمر کا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے بے روزگار ہے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ / ان لوگوں نے بے روزگاری کے مد نظر درخواست دی ہے۔ اگر "ہاں" تو اپنا / ان کا نام، کب آپ نے / انہوں نے بے روزگاری کے لیے فائل کیا، اور فائلنگ کی حالت تحریر کریں۔

کیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کسی اسٹرانک میں حصہ لے رہا ہے؟ اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اسٹرانک پر ہیں (یعنی کسی آجر کے فیصلہ یا کام کے طریقوں کے خلاف احتجاج میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے) اور اگر "ہاں" تو اپنا / ان کا نام تحریر کریں۔

اسٹرانک کب شروع ہوا: اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اسٹرانک پر ہیں تو وہ تاریخ تحریر کریں جس میں آپ / وہ اسٹرانک پر چلے گئے۔

کیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کوئی تارک وطن یا موسمی فارم ورکر ہے؟ اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کام کے لیے مختلف فارمز کا سفر کرتا ہے یا فارم میں صرف بوائے کے موسم میں کام کرتا ہے، اور اگر "ہاں" تو اپنا / ان کا نام تحریر کریں۔

کیا آپ یا کوئی دیگر بالغ شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس کوئی ایسے طبی عوارض ہیں جو کام کرنے کی صلاحیت یا اس کام کی نوعیت کو محدود کرتے ہیں جو کہ انجام دیے جا سکتے ہیں؟ اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کام کرنے کی عمر کا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے یہاں کوئی ایسی حالت ہے جو آپ کو / انہیں کل وقت کام کرنے سے یا مخصوص طرح کے کام کرنے سے باز رکھتی ہے، اور اگر "ہاں" تو اپنا / ان کا نام تحریر کریں۔

بندشوں کی وضاحت کریں: اگر آپ یا کام کرنے کی عمر کا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی حالت ہے جو آپ کو / انہیں کل وقت کام کرنے سے یا مخصوص طرح کے کام کرنے سے باز رکھتی ہے تو ان طریقوں کی وضاحت کریں جن میں آپ / وہ لوگ محدود ہیں۔

کیا آپ آج کوئی ملازمت قبول کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ دستیاب ہونے کی صورت میں آج کوئی کام قبول کر سکتے ہیں، اور اگر "نہیں" تو اسباب بیان کریں۔

آپ کس طرح کا کام کرنا پسند کرتے ہیں؟: اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کو کس قسم کی ملازمت اچھی لگے گی۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 11

سیکشن 19: تعلیم / ٹریننگ

آپ کی مکمل شدہ تعلیم کی اعلیٰ ترین سطح کیا ہے؟ اس وضاحت کو (✓) نشان زد کریں کہ جو اس بات سے بہترین مطابقت رکھتی ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ تعلیم مکمل کی ہے۔

اگر ایسا ہے تو مکمل شدہ آخری گریڈ؟ اگر آپ نے ہائی اسکول مکمل نہیں کیا ہے تو وہ آخری گریڈ تحریر کریں جو آپ نے مکمل کیا ہے۔

کیا گھرانے میں کسی اور کے پاس کوئی ہائی اسکول ڈپلوما، جنرل اکیولینسی ڈپلوما

(GENERAL EQUIVALENCY DIPLOMA, GED) یا ٹیسٹ اسیسنگ سیکنڈری کمپلیشن

(TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION, TASC™) یا اس سے اعلیٰ سطح کی تعلیم ہے؟

کون، حاصل کردہ ڈگری، اور مکمل کرنے کی تاریخ: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا

کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما، جنرل اکیولینسی ڈپلوما (GED) یا ٹیسٹ اسیسنگ سیکنڈری

کمپلیشن (TASC™) یا اس سے اعلیٰ سطح کی تعلیم ہے اگر "ہاں" تو اس شخص کا نام، حاصل کردہ ڈگری، اور حاصل کرنے کی تاریخ

تحریر کریں۔

خود کے لیے یا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ معاونت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے مندرجہ ذیل سوالات مکمل کریں:

کیا کسی ٹریننگ پروگرام میں ہے یا رہا ہے؟ 12 کون، کہاں، پروگرام، شرکت کرنے کی تاریخیں، اور مکمل کرنے کی تاریخیں: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو معاونت کے حصول کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اس نے گزشتہ 12 ماہ میں ملازمت کے کسی ٹریننگ پروگرام میں شرکت کی ہے، اور اگر "ہاں" تو اس شخص کا نام، اس شخص نے ٹریننگ پروگرام میں کہاں شرکت کی، پروگرام کا نام یا یہ کہ کس طرح کا پروگرام تھا، اور وہ تاریخیں جس میں اس شخص نے شرکت کی اور پروگرام کو مکمل کیا تحریر کریں۔

کیا عمر 16 سال یا زیادہ ہے اور اسکول یا کالج میں زیر تعلیم ہے؟ کون، اور کہاں: یہ نشاندہی کرنے کے لیے (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کریں کہ آیا آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی فرد جو معاونت کے حصول کے لیے ری سرٹیفائی کر رہے ہیں ان کی عمر 16 برس یا زیادہ ہے اور وہ اسکول یا کالج میں زیر تعلیم ہیں، اور "ہاں" کی صورت میں ان فرد کا اور ان کے اسکول یا کالج کا نام تحریر کریں۔

کیا وہ کوئی ٹریننگ الاؤنس حاصل کر رہا ہے، کون، اور رقم؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ معاونت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے وہ کوئی ٹریننگ الاؤنس وصول کر رہا ہے۔ اگر "ہاں" تو اس شخص (اشخاص) کا نام اور موصولہ رقم کی مقدار تحریر کریں۔

کیا وہ تعلیمی گرانٹس یا قرضے حاصل کر رہا ہے، کون، اور رقم؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ معاونت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے وہ کوئی تعلیمی گرانٹس یا قرضے حاصل کر رہا ہے۔ اگر "ہاں" تو اس شخص (اشخاص) کا نام اور موصولہ رقم کی مقدار تحریر کریں۔

کیا عمر 16 برس سے کم ہے اور وہ اسکول میں زیر تعلیم ہے؟ کون، اور اسکول: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو معاونت کے حصول کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے یا حاصل کر رہا ہے اس کی عمر 16 برس سے کم ہے، اور اگر "ہاں" تو اس طرح کے کسی بھی شخص (اشخاص) اور ان کے اسکول کے نام تحریر کریں۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 12

سیکشن 20: نرائع کی معلومات

اگر آپ صرف تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام کے فوائد کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا آپ کے پاس زندگی کا بیمہ ہے۔

اس بات کا اشارہ دیں کہ آیا آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص نرج ذیل کی درخواست دے رہا ہے: سطریں 1 تا 23 کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ معاونت کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے ان کے پاس فہرست میں ذکر کردہ کوئی مالی ذرائع ہیں۔

کون: ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، اس شخص (اشخاص) کا نام (کے نام) تحریر کریں جن کے پاس ذرائع ہیں۔

اگر ہاں تو رقم/ قیمت: ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، ڈالر (\$) میں ذریعہ کی رقم یا قیمت تحریر کریں۔ کسی بھی مشترک املاک کو ضرور ذکر کریں (یعنی ایسے ذرائع جن کا تعلق دو یا زیادہ لوگوں سے ہے، مثال کے طور پر، مشترکہ بینک کھاتے)۔ کوئی بھی شخص جو عوامی معاونت یا Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اس کے لیے کسی بھی قانونی طور پر ذمہ دار رشتہ داروں کے ذرائع کو شامل کرنا لازمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو از روئے قانون آپ کو یا کسی بھی دوبارہ تصدیق فراہم کنندہ کو مالی مدد دینے کے پابند ہیں جیسے کوئی شریک حیات یا، اگر آپ کی عمر 21 برس سے کم ہے تو کوئی بھی والدین یا سوتیلے والدین جو آپ کے ساتھ یا کسی بھی دوبارہ تصدیق فراہم

کنندہ کے ساتھ رہتے ہیں۔

موثر گاڑی (گاڑیوں) یا دیگر گاڑی (گاڑیوں) کا حق ملکیت یا رجسٹریشن ہے، سال، بناوٹ/ ماڈل، اور دیگر: اگر آپ کا نام یا کسی بھی ایسے شخص کا نام جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے وہ کسی کار یا دیگر گاڑی کے لیے مالک کی حیثیت سے مذکور ہے، سطر 6 میں ہر ایک گاڑی کے لیے سال، بناوٹ، اور ماڈل تحریر کریں۔ سطر 6 میں "دیگر" کے بعد، ذرائع کی فہرست ذکر کریں، جیسے کیمپرس، اسنو موبائلز، اور کشتیاں۔

منکورہ بالا کے علاوہ دیگر ذرائع ہیں: اگر آپ کوئی مجموعی رقم حاصل کرتے ہیں یا حاصل کرنے کی توقع کر رہے ہیں تو اپنے ڈسٹرکٹ کو فوراً بتانا انتہائی ضروری ہے۔ مجموعی رقم یکبارگی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے کسی بیمہ کا تصفیہ، میراث، یا کسی مقدمہ کا ایوارڈ یا لائٹری جینٹا۔ مجموعی رقم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھیں LDSS-4148A، "کتاب 1: اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے" (What You Should Know About Your Rights and Responsibilities)۔

کیا کسی نے ملضی میں کبھی کوئی ٹرسٹ قائم کیا ہے یا گزشتہ 60 مہینوں کے اندر کسی ٹرسٹ میں کوئی اثاثے منتقل کیے ہیں؟ اگر آپ یا آپ کا شریک حیات اس مہینہ کے پہلے دن سے قبل 36 مہینوں کے اندر کوئی اثاثے منتقل یا عطیہ کرتے ہیں (کسی ٹرسٹ کو منتقل کرنے کے لیے یہ مدت 60 ماہ ہے) جس میں آپ نرسنگ سہولت کی خدمات وصول کرتے ہیں اور آپ نے Medicaid کے لیے کوئی درخواست جمع کرا رکھی ہے تو آپ نرسنگ سہولت کی خدمات یا Medicaid پروگرام کے تحت گھر پر یا کمیونٹی پر مبنی رعایتی خدمات حاصل کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔

اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو درخواست دے رہا ہے یا آپ کا یا کسی اور کا شریک حیات درخواست دے رہا ہے (خواہ اگر شریک حیات درخواست نہیں دے رہا ہے یا گھرانے میں نہیں رہ رہا ہے)، اس نے کوئی ٹرسٹ قائم کیا ہے یا گزشتہ پانچ سالوں میں کسی ٹرسٹ کے اندر کوئی رقم لگائی ہے تو سطر 23 میں تحریر کریں کہ ٹرسٹ کب قائم کیا گیا تھا یا رقم کب لگائی گئی تھی۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 13 تا 15

سیکشن 21: طبی معلومات

نکر کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اور اگر ہاں تو وہ کون ہے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا منکورہ کوئی بھی حالتیں آپ پر یا کسی بھی ایسے شخص پر منطبق ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ تعاون کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے، اور اگر "ہاں" تو اس شخص کا نام تحریر کریں جس پر ہر ایک حالت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تمام صحت اور ہسپتال/ ایکسیڈنٹ بیمہ کی فہرست ضرور ذکر کریں جو آپ کے پاس ہیں یا جو کسی بھی ایسے شخص کے لیے دستیاب ہے جو دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے۔

اس کے پاس اس دوبارہ تصدیق کے مہینہ سے قبل والے 3 مہینوں کے اندر ادا شدہ یا غیر ادا شدہ طبی بل ہیں: Medicaid آپ کو مدد کے لیے جس ماہ میں آپ درخواست دیتے ہیں اس سے قبل تین ماہ کے اندر آپ کو فراہم کی گئی نگہداشت کے لیے طبی بلوں کے عوض ادائیگی کر سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی بل ادا کر چکے ہیں تو ہم آپ کو بلوں کے عوض ادائیگی کر سکتے ہیں اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آپ اس وقت Medicaid کے لیے اہل رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو اس صورت میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں جبکہ ڈاکٹر یا کوئی اور فراہم کنندہ Medicaid قبول نہیں کرتا ہے، لیکن ہم آپ کو صرف وہی رقم ادا کر سکتے ہیں جو کہ Medicaid آپ کو ادا کرتا اور صرف اس صورت میں جبکہ بل ان خدمات کے لیے ہو جن کے لیے Medicaid نے ادائیگی کی ہوتی۔

حاملہ ہیں: اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتی ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہی ہے حاملہ ہیں تو سطر 14 میں ولادت کی متوقع تاریخ نیز ولادتوں کی متوقع تعداد تحریر کریں۔

صحت بیمہ کا انتخاب: اس سیکشن کو پر اس شخص کے لیے مکمل کریں جو Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے۔ Medicaid میں اندراج یافتہ بیشتر لوگوں سے ایک زیر انتظام نگہداشت کے صحت بیمہ میں شامل ہونے کا تقاضا کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ کسی مستثنیٰ زمرے میں آتے ہوں۔ کسی صحت کے منصوبے کو منتخب کرنے کے لیے اسے استعمال کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے صحت بیمہ دستیاب ہیں تو اپنے کارکن سے دریافت کریں یا مینجڈ کیئر Medicaid ایڈ چوائس کی ہیلپ لائن کو 1-800-505-5678 پر کال کریں۔

اس منصوبہ کا نام جس میں آپ اندراج کرا رہے ہیں: اس صحت منصوبہ (منصوبوں) کا نام تحریر کریں جس میں Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا کوئی بھی شخص اندراج کرانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے صحت کے کون سے منصوبے دستیاب ہیں تو ڈسٹرکٹ سے دریافت کریں۔

آخری نام اور پہلا نام: ہر اس شخص کا آخری نام اور پہلا نام تحریر کریں جو Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے۔

تاریخ پیدائش: ہر اس شخص کی تاریخ پیدائش کا مہینہ، دن اور سال تحریر کریں جو Medicaid کے لیے درخواست دہندہ تصدیق فراہم کر رہا ہے۔

جنس: Medicaid کے لیے ری سرٹیفائی کرنے والے ہر فرد کی صنف کی نشاندہی کرنے کے لیے مرد کے لیے "M"، خاتون کے لیے "F"،

یا نان بانٹری یا کسی اور شناخت کے لیے "X" درج کریں۔

آئی ڈی نمبر (MEDICAID کارڈ سے اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے): Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق کرتے وقت، Medicaid کارڈ کا شناختی نمبر یہاں پرنٹ کریں۔

سوشل سیکورٹی نمبر#: Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے ہر شخص کا سوشل سیکورٹی نمبر تحریر کریں۔

پرائمری کیئر فراہم کنندہ (PRIMARY CARE PROVIDER, PCP) یا صحت کا مرکز (موجودہ فراہم کنندہ ہونے کی صورت میں خانے پر نشان لگائیں): بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ (یعنی جنرل پریکٹیشنر یا فیملی ڈاکٹر) یا ہیلتھ سنٹر کا نام تحریر کریں جسے Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا کوئی شخص استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ وہی فراہم کنندہ یا سنٹر ہے جسے وہ شخص پہلے ہی سے استعمال کرتا ہے تو باکس کو (✓) نشان زد کریں۔ طبی نگہداشت وصول کرنے سے پہلے آپ کے لیے اس بات کو یقینی بنانا لازمی ہے کہ فراہم کنندہ یا سنٹر Medicaid کو قبول کرتا ہے۔

OB/GYN نسوان کا نام اور آئی ڈی نمبر (اگر موجودہ فراہم کنندہ ہو تو باکس کو نشان زد کریں): اگر Medicaid کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی شخص کو ماہر تولید / ماہر امراض نسوان (OB/GYN) کی نگہداشت اور خدمات کی ضرورت ہو تو اس OB/GYN کا نام تحریر کریں جن کی خدمات درخواست دہندہ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اگر درخواست دہندہ پہلے ہی اس OB/GYN کی خدمات وصول کرتی ہے تو باکس کو (✓) نشان زد کریں۔ طبی نگہداشت وصول کرنے سے پہلے آپ کے لیے اس بات کو یقینی بنانا لازمی ہے کہ فراہم کنندہ یا سنٹر Medicaid کو قبول کرتا ہے۔

طبی نگہداشت وصول کرنے سے پہلے آپ کے لیے اس بات کو یقینی بنانا لازمی ہے کہ جس ڈاکٹر یا طبی فراہم کنندہ کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ Medicaid قبول کرتے ہوں۔

سیکشن 22: شیلٹر

آپ کے مالک مکان کا نام، پتہ اور فون نمبر کیا ہے؟: اگر آپ کا کوئی مالک مکان ہے تو اپنے مالک مکان کا نام، پتہ اور فون نمبر تحریر کریں۔

کیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس کوئی کرایہ، مارگیج یا شیلٹر کے دیگر اخراجات ہیں؟: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ کرایہ، یا کوئی مارگیج یا شیلٹر (مثال کے طور پر کمرہ اور بورڈ) کے دیگر اخراجات ادا کرتا ہے، اور اگر "ہاں" تو وہ رقم تحریر کریں جو آپ / وہ لوگ ہر ماہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ پر کوئی مارگیج پیمنٹ ہے تو پراپرٹی ٹیکس اور مکان مالک کے بیمہ (بشمول فائر انشورنس) کی رقم شامل کریں۔

کیا آپ پر یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس پر آپ کے کرایہ سے علیحدہ حرارت کا کوئی بل یا شیلٹر کے دیگر اخراجات ہیں؟: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے کرایہ، مارگیج، یا شیلٹر کے دیگر اخراجات سے علیحدہ حرارت کے لیے ادائیگی کرتا ہے، اور اگر "ہاں" تو وہ رقم تحریر کریں جو آپ / وہ ہر ماہ ادا کرتے ہیں۔

کیا آپ پر یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس پر آپ کے کرایہ یا شیلٹر کے دیگر اخراجات سے علیحدہ مندرجہ ذیل اخراجات ہیں؟: سطرین 1 تا 8 کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے کرایہ، مارگیج یا شیلٹر کے دیگر اخراجات کے علاوہ مذکورہ کسی بھی اخراجات کے لیے ادائیگی کرتا ہے، اور اگر "ہاں" تو وہ رقم تحریر کریں جو آپ / وہ لوگ ہر ماہ ادا کرتے ہیں۔ سطرین 9 تا 11 پر درج سوالات کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والا کوئی بھی شخص ان میں سے کسی انتظامات میں رہتا ہے۔

سیکشن 23: دیگر اخراجات

نکر کریں اگر آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اور اگر ہاں تو رقم: لائن 1 تا 5 پر (✓) "ہاں" یا "نہیں" کو نشان زد کر کے یہ نشاندہی کریں کہ کیا آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی فرد جو کہ ری سرٹیفائی کر رہے ہیں ان لائنوں میں مذکورہ کوئی ادائیگیاں کرتے ہیں۔ سطر 6 پر کسی بھی ایسے اخراجات کی نشاندہی کریں جو فہرست میں مذکور نہیں ہیں۔ ہر ایک "ہاں" جواب کے لیے، ادائیگی یا اخراجات کی رقم تحریر کریں، اور یہ کتنی کثرت سے ادا کی جاتی ہے (مثال کے طور پر \$100 فی ہفتہ یا \$100/ہفتہ واری)۔

کیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اس پر کم از کم 21 برس سے کم عمر کسی بچے کے لیے سپورٹ کے چار مہینوں کا بقایا ہے: یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اس پر بچے کے سپورٹ کے چار مہینوں یا زیادہ کا بقایا ہے۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کا صفحہ 16

سیکشن 24: دوسری معلومات

کیا آپ کسی ہوم ڈیلیوری سے یا کمیونل ڈائننگ سروس سے کھانے خریدتے ہیں یا خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے فی الحال کسی ہوم ڈیلیوری (مثال کے طور پر، پھیوں پر کھانا) یا کمیونل ڈائننگ (مثال کے طور پر، اس بلڈنگ میں کوئی کیفیئر یا جس میں آپ رہتے ہیں) سروس سے کھانے خریدتے ہیں یا خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔

کیا آپ گھر پر کھانے پکانے یا تیار کرنے کے قابل ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں آپ کھانا پکا سکتے ہیں۔

سطریں 10 تا 12 میں درج سوالوں کے مقاصد کے لیے، "امریکی فوج" سے مراد ذیل ہے:

- امریکی آرمی
- امریکی نیوی
- امریکی کوسٹ گارڈ
- امریکی مریں کورپس
- امریکی ایئر فورس
- دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی مرچینٹ مریں

کیا آپ یا آپ کے گھرانے کے کوئی فرد کبھی امریکی فوج میں رہے ہیں اور وہ کون ہیں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی اور شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کبھی فوج کے کسی مذکورہ بالا شعبوں میں رہے ہیں، اور اگر "ہاں" تو ان کا نام تحریر کریں۔

کیا آپ کا شریک حیات کبھی امریکی فوج میں رہا ہے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ کا شریک حیات کبھی فوج کے کسی مذکورہ بالا شعبہ میں رہا ہے۔

کیا آپ کے گھرانے میں کوئی شخص کسی ایسے شخص پر منحصر ہے جو امریکی فوج میں ہے یا تھا؟ اور کون؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے مالی طور پر کسی ایسے شخص پر منحصر ہے جو مذکورہ بالا فوج کے کسی شعبہ سے منسلک ہے یا کبھی رہا ہے، اور اگر "ہاں" تو منحصر شخص کا نام تحریر کریں۔

بتائیں کہ آیا آپ یا کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو کہ دوبارہ تصدیق فراہم کر رہا ہے اور کون؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے "ہاں" یا "نہیں" کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا اگلے نو سوالوں میں بیان کردہ حالتوں کا اطلاق آپ پر یا کسی اور شخص پر جو آپ کے ساتھ رہتا ہے ہوتا ہے، اور اگر "ہاں" تو اس شخص کا نام تحریر کریں جس پر اس حالت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سوالات کو نہیں سمجھتے تو اپنے ڈسٹرکٹ سے وضاحت طلب کریں۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ نیو یارک ریاست کے قانون میں ایسے شخص کے لیے تاوان یا جیل یا دونوں کا التزام ہے جسے حقائق کو چھپانے یا حقیقت نہ بتانے کی وجہ سے عوامی معاونت، Medicaid، SNAP، بینیفٹس، چائلڈ کیئر معاونت یا خدمات حاصل کرنے کا مجرم پایا گیا ہو۔

پراپرٹی ٹرانسفر کی حالت: یہ ظاہر کرنے کے لیے "میں نے کیا" یا "میں نے نہیں کیا" باکس کو (✓) نشان زد کریں کہ آیا آپ نے یا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے کسی اور شخص نے عوامی معاونت یا SNAP بینیفٹس موصول کرنے کی غرض سے کوئی پراپرٹی فروخت، ٹرانسفر یا عطیہ کیا ہے۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ نیو یارک ریاست کے قانون میں ایسے شخص کے لیے تاوان یا جیل یا دونوں کا التزام ہے جسے حقائق کو چھپانے یا حقیقت نہ بتانے کی وجہ سے عوامی معاونت، Medicaid، SNAP بینیفٹس، چائلڈ کیئر معاونت یا خدمات حاصل کرنے کا مجرم پایا گیا ہو۔

دوبارہ تصدیق کے فارم کے صفحات 17 تا 23

اطلاعات، تفویضات، اجازتیں اور رضامندیاں

اس سیکشن میں دی گئی تمام معلومات کو دھیان سے پڑھیں یا کسی سے انہیں پڑھنے کو کہیں۔ اس سیکشن میں معاونت وصول کرنے سے متعلق آپ کے حقوق اور ذمہ داریوں، نیز ان جرماتوں کی معلومات ہیں جو آپ پر لگانے جا سکتے ہیں (مثال کے طور پر کوئی تاوان اور / یا جیل) اگر آپ اس سیکشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں۔ کسی دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کرنے کے بعد اسے جمع کر کے آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اس سیکشن میں درج معلومات کو سمجھتے ہیں اور ان سے اتفاق رکھتے ہیں۔

تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام کا مجاز نمائندہ: اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے لیے تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام (SNAP) کے بینیفٹس کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کرے اور / یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے لیے SNAP بینیفٹس حاصل کرے اور / یا انہیں آپ کے لیے غذائیں خریدنے میں استعمال کرے تو باکس میں اس شخص کا نام، پتہ اور فون نمبر تحریر کریں۔ یہ شخص آپ کا "مجاز نمائندہ" ہے۔ مجاز نمائندے کو لازمی طور پر اس دوبارہ تصدیق کے فارم کے اخیر میں دستخط کے صفحہ پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنی چاہیے۔ اگر آپ کا گھرانہ کسی ادارے میں رہائش پذیر نہیں ہے تو آپ کے گھرانے کے ایک ذمہ دار بالغ فرد کو بھی دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنی چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ کے گھرانہ نے اس کے برخلاف مجاز نمائندہ کو یہ کام کرنے کے لیے تحریری طور پر نامزد کیا ہو۔

طبی معلومات کا اجراء: "HIV/AIDS کی معلومات ظاہر نہ کریں"، "ذہنی صحت کی معلومات ظاہر نہ کریں" اور / یا "منشیات اور الکحل کی معلومات ظاہر نہ کریں" کو (✓) نشان زد کریں اگر آپ اپنے بارے میں اور یا دوبارہ تصدیق فراہم کرنے والے فیملی ممبران کے بارے میں یہ طبی معلومات ظاہر کیے جانے سے اتفاق نہ کرتے ہوں جیسا کہ قانون کی رو سے اجازت ہے۔

دستخط کا سیکشن: اس سیکشن کو دھیان سے پڑھیں یا کسی اور شخص سے کہیں کہ وہ انہیں آپ کے لیے پڑھ دیں۔ نیو یارک ریاست کے قانون میں ایسے شخص کے لیے تاوان یا جیل یا دونوں کا التزام ہے جسے حقائق کو چھپانے یا حقیقت نہ بتانے کی وجہ سے عوامی معاونت، Medicaid، تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام کے بینیفٹس، چائلڈ کیئر معاونت یا خدمات حاصل کرنے کا مجرم پایا گیا ہو۔ ری سرٹیفیکیشن فارم پر دستخط کرنے کے بعد جمع کروا کر آپ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ اس سیکشن میں درج بیانات کو سمجھتے ہیں اور ان سے متفق ہیں، اور یہ کہ وہ تمام معلومات جو آپ نے اس ری سرٹیفیکیشن فارم میں فراہم کی ہیں یا آئندہ ڈسٹرکٹ کو فراہم کریں گے وہ آپ کی بہترین معلومات کی حد تک مکمل اور درست ہیں۔

دستخط دہندہ کے دستخط اور دستخط کرنے کی تاریخ: اپنے نام کے دستخط کریں اور جس دن آپ نے دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کیے ہیں وہ تاریخ ڈال دیں سوائے اس کے کہ آپ نے تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام (SNAP) کے کسی مجاز نمائندہ کو دوبارہ تصدیق کے فارم پر نامزد کر دیا ہو اور آپ کسی انسٹی ٹیوشن میں رہتے ہوں، تو اس صورت میں مجاز نمائندہ دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کسی انسٹی ٹیوشن میں نہیں رہتے ہیں تو آپ اور مجاز نمائندہ دونوں کو لازماً دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ نے پہلے ہی SNAP کے مجاز نمائندہ کو اس کام کے لیے تحریری طور پر نامزد کر دیا ہو۔ اگر آپ نے کسی اور کے لیے ری سرٹیفیکیشن فارم پُر کیا ہے تو اپنے نام کے دستخط کریں، جن کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں ان کے نہیں، اور دستخط کرنے کی تاریخ تحریر کر دیں۔

شریک حیات یا محافظ نمائندہ کے دستخط اور دستخط کرنے کی تاریخ: اگر آپ شادی شدہ ہیں اور عوامی معاونت، Medicaid، چائلڈ کیئر معاونت، یا خدمات کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہیں تو آپ کے شریک حیات کے لیے دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور صرف تکملائی غذائی اعانت کے پروگرام کے بینیفٹس کے لیے دوبارہ تصدیق فراہم کر رہے ہیں تو شریک حیات میں سے صرف ایک کو دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی محافظ نمائندہ ہے تو اس کے لیے دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنا ضروری ہے۔

مجاز نمائندہ کے دستخط اور دستخط کرنے کی تاریخ: اگر آپ نے دوبارہ تصدیق کے فارم پر SNAP کا کوئی مجاز نمائندہ نامزد کیا ہے تو اس شخص کے لیے دوبارہ تصدیق کے فارم پر دستخط کر کے تاریخ ڈالنا ضروری ہے۔

میں ذیل کے لیے اپنا معاملہ بند کرنے کی درخواست کرنا / کرتی ہوں: کسی باکسوں کو نشان زد نہ کریں، نہ ہی اس سیکشن پر دستخط یا تاریخ ثبت کریں، اگر آپ کوئی دوبارہ تصدیق (ری سرٹیفیکیشن) جمع کرانا چاہتے ہیں۔ اس سیکشن کو صرف اس صورت میں نشان زد کریں جب آپ ایک یا ایک سے زیادہ پروگراموں کے لیے اپنا کیس ختم کروانا چاہتے ہوں۔ اپنا معاملہ بند کرانے کی درخواست کرنے کے لیے، اس پروگرام کے سامنے والے باکس کو (✓) نشان زد کریں اور جہاں بتایا گیا ہے وہاں پر دستخط کر کے تاریخ ڈال دیں۔ براہ کرم درخواست کی کوئی وجہ فراہم کریں۔

ووٹر رجسٹریشن فارم: اس دوبارہ تصدیق کے فارم کے آخری دو صفحات ایک ووٹر رجسٹریشن فارم ہیں۔ رجسٹر کرنے کے لیے اس فارم کا استعمال کرنا یا ووٹ کے لیے رجسٹر کرنے سے انکار کرنا بینیفٹس اور / یا خدمات کے لیے آپ کی دوبارہ تصدیق (ری سرٹیفیکیشن) کے بارے میں لیے گئے فیصلہ، یا معاونت کی اس رقم کو متاثر نہیں کرے گا جو آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ووٹر رجسٹریشن فارم بھرنے میں مدد چاہتے ہیں تو اپنے ضلع سے دریافت کریں۔

اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، درج ذیل میں سے ایک فراہم کریں:	اہلیت کا عنصر	معلوماتی مقاصد دستاویزات کی شرائط		
<p>سوشل سیکیورٹی کارڈ SSA سے سرکاری خط و کتابت ایسے غیر شہری جو صرف ہنگامی علاج کے لیے Medicaid کے خواہاں ہیں یا ایسی حاملہ خواتین جو صرف Medicaid کے لیے درخواست دہندگان ہیں کے لیے کسی سوشل سیکیورٹی نمبر کی ضرورت نہیں ہے۔</p>	<p><input type="checkbox"/> سوشل سیکیورٹی نمبر (عوامی معاونت، SNAP بینیفٹس اور Medicaid کے لیے۔ فقط آپ کو اپنے سوشل سیکیورٹی نمبر (SSN) کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جو SSN فراہم کریں وہ SSA کے ریکارڈز کے مطابق نہ ہو یا ایجنسی کے ذریعہ اس کی تصدیق نہ ہو سکے۔)</p>	<p>اہلیت کے عناصر اور دستاویزات کی شرائط کی ذیل کی یہ فہرست کلی طور پر معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ آپ کا ضلع آپ کو مطلع کرے گا کہ آپ کو اہلیت کے کون سے عناصر ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ سے اہلیت کے دیگر عناصر کو ثابت کرنے کا تقاضا کیا جا سکتا ہے جو کہ ذیل کی فہرست میں ذکر نہیں ہے۔ آپ اہلیت کی ان شرائط کو ثابت کرنے کے لیے وہ دستاویزات فراہم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو کہ ذیل کی فہرست میں مذکور نہیں ہیں۔ اگر دستاویزات کی تقاضوں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو براہ کرم اپنے ضلع سے رابطہ کریں۔</p>		
<p>برتبہ سرٹیفکیٹ بینیفٹس سرٹیفکیٹ اسپتال کے ریکارڈز امریکی پاسپورٹ ملٹری سروس ریکارڈز نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ USCIS دستاویزات 72/11 کے پہلے سے مسلسل امریکی رہائش کا ثبوت</p>	<p><input type="checkbox"/> شہریت یا موجودہ غیر ملکی شہری کی حیثیت – امریکی شہری عوامی معاونت، SNAP اور Medicaid کے لیے اہل ہیں۔ عوامی معاونت، SNAP اور Medicaid کا اہل ہونے کی خاطر غیر ملکی شہریوں کے لیے اطمینان بخش امیگریشن کی حیثیت والا ہونا لازمی ہے۔ امیگریشن کا اسٹیٹس حاملہ خواتین یا Child Health Plus کے لیے درخواست دینے والے تارکین وطن بچوں کے لیے اہلیت کا عناصر نہیں ہے۔ غیر دستاویزی تارکین وطن اور عارضی غیر تارکین وطن صرف ہنگامی طبی حالت کے علاج کے لیے اہل ہیں۔</p>	<p>✓ ↓ درج ذیل میں سے دو</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>حالیہ اجرت کے اسٹیٹز تتخواہ کے لفاظے لیٹر بیڈ پر، فی گھنٹہ اجرت کی شرح؛ فی ہفتہ کام کی گنتی؛ پہلی اجرت کی تاریخ، اگر نئے ہیں اور آجر کا فون نمبر، آجر سے رابطہ کاروباری ریکارڈز ٹیکس ریکارڈز ذاتی کاروبار کی آمدنی اور اخراجات سے متعلق ریکارڈز اور متعلقہ مواد حالیہ انکم ٹیکس ریٹرن حالیہ کنٹری بیوشن چیک رومر، بورڈر، کرایہ دار کا اسٹیٹمنٹ انکم ٹیکس کے ریکارڈز</p>	<p><input type="checkbox"/> کمانی ہونی آمدنی آجر سے</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>برتبہ سرٹیفکیٹ بینیفٹس سرٹیفکیٹ اسپتال کے ریکارڈز گود اینے کے ریکارڈز نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ گود اینے کی دستاویز</p>	<p><input type="checkbox"/> دیگر فرد کا اسٹیٹمنٹ تصدیق شدہ سوشل سیکیورٹی نمبر ولادت/بپتسمہ کا سرٹیفکیٹ</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>شادی/تینہ سرٹیفکیٹ علیحدگی کا معاہدہ طلاق کا حکم نامہ سوشل سیکیورٹی ریکارڈز VA ریکارڈز</p>	<p><input type="checkbox"/> ذاتی کاروبار سے</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>مالک مکان کا اسٹیٹمنٹ حالیہ کرائے یا لیز کی رسید مارگیج ریکارڈز</p>	<p><input type="checkbox"/> کرائے یا کمرے/بورڈ سے آمدنی</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>غیر رشتے دار مالک مکان کا اسٹیٹمنٹ اسکول ریکارڈز</p>	<p><input type="checkbox"/> دیگر افراد کے اسٹیٹمنٹس</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>برتبہ سرٹیفکیٹ بینیفٹس سرٹیفکیٹ اسپتال کے ریکارڈز گود اینے کے ریکارڈز نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ ڈرائیونگ لائسنس</p>	<p><input type="checkbox"/> بغیر کمانی ہونی آمدنی چائلڈ سپورٹ</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>بے روزگاری بیمہ کی مراعات (Unemployment Insurance) (benefits, UIB)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>سوشل سیکیورٹی کی مراعات (بشمول SSI)</p>	<p><input type="checkbox"/> سابق فوجیوں کی مراعات</p>	<p>✓ ↓ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا</p>	<p>اس عنصر کو ثابت کرنے کے لیے، یہ فراہم کریں:</p>	<p>اہلیت کا عنصر</p>
<p>س</p>				

